



## جب یمن والہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا: تمہارے پاس اللہ یمن آئے ہیں

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا: ”تمہارے پاس اللہ  
یمن آئے ہیں“، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل مصافحہ کرنے کا طریقہ لائے  
[صحیح] [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

آپ نے فرمایا: ”تمہارے پاس اللہ یمن آئے ہیں“ یہ اللہ یمن کی شان کو بلند کرنا اور ان کی فضیلت کو ظاہر  
کرنا ہے انہی میں سے اشعری لوگ بھی ہیں جو کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے لوگ ہیں اس  
فضیلت کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند (3/155) میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے  
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”کل تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کے دل اسلام کے لیے تم سے  
زیادہ نرم ہوں گے“ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: چنانچہ اشعری لوگ آئے، ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی  
اللہ عنہ بھی تھے جب وہ لوگ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو یہ رجزیہ شعر پڑھنے لگے: غداً نلقى الأحبه... محمداً  
وحزبه یعنی کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے جب یہ لوگ آئے تو انہوں  
نے مصافحہ کیا چنانچہ یہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مصافحہ کا رواج ڈالا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6214>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

